

German (Deutsch)

Einführungsriten

Zeichen des Kreuzes

Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.

Amen

Gruß

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus,
und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft
des Heiligen Geistes Sei bei euch allen.

Und mit deinem Geist.

Beulenakt

Brüder (Brüder und Schwestern), lass uns
unsere Sünden anerkennen, und bereiten
Sie uns so vor, die heiligen Geheimnisse zu
feiern.

Ich gestehe dem allmächtigen Gott Und für
dich, meine Brüder und Schwestern, dass
ich sehr gesündigt habe, in meinen
Gedanken und in meinen Worten, in dem,
was ich getan habe und was ich nicht getan
habe, durch meine Schuld, durch meine
Schuld, durch meine schwerwiegendste
Schuld; Deshalb frage ich gesegnete Maria
immer, immer zu virgen, alle Engel und
Heiligen, und du, meine Brüder und
Schwestern, für mich zu dem Herrn,
unserem Gott, zu beten.

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹ اور روح القدس
ک نام پر

آمین

سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا
فضل ، اور خدا کی محبت ، اور
روح القدس کی میل جول آپ
سب کے ساتھ رہیں

اور اپنی روح کے ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئیے
م اپنے گناہوں کو تسلیم کریں
، اور اس طرح مقدس اسرار
کو مناہ کے لئے خود کو تیار
کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف
کرتا ہوں اور آپ کے لئے ، میرے
بھائیو اور بہنیں ، کہ میں نے
بہت گناہ کیا ، میرے خیالات
میں اور میرے الفاظ میں ، میں
نے کیا کیا اور میں کیا کرنے
میں ناکام رہا ہوں ، میری
غلطی کے ذریعے ، میری غلطی
کے ذریعے ، میری انتہائی تکلیف
د غلطی کے ذریعے ؛ لہذا میں
مبارک مریم کو ہمیشہ کے
وہرگین سے پوجھتا ہوں ، تمام
فرشتے اور سنت ، اور آپ ،
میرے بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے
خداوند مار خدا سے دعا
کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ،
مار گناہوں کو معاف کرے ،

German (Deutsch)

Möge der allmächtige Gott gnädig uns uns,
vergib uns unsere Sünden, Und bringen Sie
uns zum ewigen Leben.

Amen

Kyrie

Herr, erbarme dich.

Herr, erbarme dich.

Christus, Gnade.

Christus, Gnade.

Herr, erbarme dich.

Herr, erbarme dich.

Gloria

Ehre sei Gott in der Höhe, und auf Erden
Frieden zu Menschen mit gutem Willen. Wir
loben dich, Wir segnen dich, Wir lieben dich,
Wir verherrlichen Sie, Wir danken Ihnen für
Ihren großen Ruhm, Herr Gott, himmlischer
König, O Gott, allmächtiger Vater. Herr Jesus
Christus, nur gezeugtem Sohn, Herr Gott,
Lamm Gottes, Sohn des Vaters, Sie nehmen
die Sünden der Welt weg, habe Gnade mit
uns; Sie nehmen die Sünden der Welt weg,
empfangen unser Gebet; Sie sitzen zur
rechten Hand des Vaters, habe Gnade mit
uns. Für Sie allein sind die Heiligen, Du
allein bist der Herr, Sie allein sind am
hochsten, Jesus Christus, Mit dem Heiligen
Geist, in der Herrlichkeit Gottes, dem Vater.
Amen.

Sammeln

Lass uns beten.

Urdu (اردو)

اور میں لازوال زندگی میں
لائیں

آمین

کیری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان،
اور زمین پر اچھے لوگوں کے لیے
امن، تم تیری تعریف کرتے
ہیں، تم آپ کو برکت دیتے
ہیں، تم آپ کو پسند کرتے
ہیں، تم تیری تسبیح کرتے
ہیں، تم تیری عظیم شان کے لیے
تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خداوند
خدا، آسمانی بادشاہ، اے خدا،
قادر مطلق باپ خداوند یسوع
مسیح، اکلوتا بیٹا، خداوند خدا،
خدا کا بڑا، باپ کا بیٹا، آپ دنیا
کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
تم پر رحم فرما آپ دنیا کے
گناہوں کو دور کرتے ہیں،
ہماری دعا قبول کرو تم باپ
کے دانہ اتھ بیٹھو، تم پر
رحم فرما۔ آپ کے لیے اکیلا ہی
مقدس ہیں، صرف تو ہی رب
صرف آپ ہی اعلیٰ ترین
ہیں حضرت عیسیٰ علیہ
السلام، روح القدس کے ساتھ،
خدا باپ کے جلال میں آمین
جمع کریں

میں نمازی پڑھنا دو.

German (Deutsch)

Amen.

Liturgie des Wortes

Erste Lesung

Das Wort des Herrn.

Gott sei Dank.

Antwortpsalm

Zweite Lesung

Das Wort des Herrn.

Gott sei Dank.

Evangelium

Der Herr sei mit dir.

Und mit deinem Geist.

Eine Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach N.

Ruhm dir, o Herr

Das Evangelium des Herrn.

Lob dir, Herr Jesus Christus.

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an einen Gott, der Vater, der Allmächtige, Hersteller von Himmel und Erde, ausgerechnet sichtbar und unsichtbar. Ich glaube an einen Herrn Jesus Christus, der einzig ge vornommene Sohn Gottes, Geboren aus dem Vater vor allen Altersgruppen. Gott von Gott, Licht von Licht, Wahrer Gott von wahren Gott, Gezeugt, nicht gemacht, konsubstantial mit dem Vater; durch ihn wurden alle Dinge gemacht. Für uns Männer und für unsere Erlösung kam er vom Himmel herunter, und durch den Heiligen Geist war inkarniert der Jungfrau Maria, und wurde Mann. Für unseretwillen wurde er unter Pontius Pilatus gekreuzigt, Er erlitt den Tod und wurde

Urdu (اردو)

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

ذمہ داری زبور

دوسری پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

انجیل

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

کے مطابق مقدس انجیل سے N
ایک پڑھنا

اے رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی

ستائش کریں

ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں،

قادر مطلق باپ، آسمان اور

زمین کا بنانے والا، ظاہر اور

پوشیدہ تمام چیزوں میں سے

میں ایک خداوند یسوع مسیح

پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا

اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے

پہلا باپ سے پیدا ہوا خدا سے

خدا، روشنی سے روشنی، سچ

خدا سے سچا خدا، پیدا ہوا،

نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ

مطابقت رکھتا ہے اس کے

ذریعہ تمام چیزیں بنی تھیں

ہمارے آدمیوں کے لیے اور

ہماری نجات کے لیے و آسمان

سے نیچے آیا، اور روح القدس

German (Deutsch)

begraben, und stieg am dritten Tag wieder auf gemäß den heiligen Schriften. Er stieg in den Himmel auf und sitzt zur rechten Hand des Vaters. Er wird wieder in Ruhm kommen die Lebenden und die Toten beurteilen Und sein Königreich wird kein Ende haben. Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn, den Geber des Lebens, wer geht vom Vater und dem Sohn vor, Wer mit dem Vater und dem Sohn ist verehrt und verherrlicht, wer hat durch die Propheten gesprochen. Ich glaube an eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Ich gestehe eine Taufe für die Vergebung der Sünden Und ich freue mich auf die Auferstehung der Toten und das Leben der Welt. Amen.

Predigt

Universelles Gebet

Wir beten zum Herrn.

Herr, höre unser Gebet.

Liturgie der Eucharistie

Offertorium

Gesegnet sei Gott für immer.

Beten, Brüder (Brüder und Schwestern), dass mein Opfer und deines kann für Gott akzeptabel sein, der allmächtige Vater.

Urdu (اردو)

کہ ذریعہ کنواری مریم کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی اُٹھا صحیفوں کے مطابق و آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا و پھر جلال میں آئے گا زند اور مرد کا فیصلہ کرنا اور اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہوگی میں روح القدس پر یقین رکھتا ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو باپ اور بیٹے کے ساتھ نکلتا، جو باپ اور بیٹے کے ساتھ سجد اور جلالی، جس نے نبیوں کے ذریعہ کلام کیا میں ایک، مقدس، کیتھولک اور رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں میں گناہوں کی معافی کے لیے ایک بپتسمہ کا اقرار کرتا ہوں اور میں مردوں کے جی اُٹھنے کا منتظر ہوں اور آنے والی دنیا کی زندگی آمین

homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں
اے رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی

لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو
دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور
بہنو)، کہ میری اور تمہاری

German (Deutsch)

Möge der Herr das Opfer an Ihren Händen akzeptieren Für das Lob und die Herrlichkeit seines Namens, Für unser Gut und das Wohl seiner heiligen Kirche.

Amen.

Eucharistisches Gebet

Der Herr sei mit dir.

Und mit deinem Geist.

Hebe deine Herzen hoch.

Wir heben sie zum Herrn.

Lassen Sie uns dem Herrn unserem Gott danken.

Es ist richtig und gerecht.

Heiliger, heiliger, heiliger Herr, Gott der Heerscharen. Himmel und Erde sind voll von deiner Herrlichkeit. Hosanna am höchsten. Gesegnet ist derjenige, der im Namen des Herrn kommt. Hosanna am höchsten.

Das Geheimnis des Glaubens.

Wir verkünden deinen Tod, o Herr, und bekennen Sie sich Ihre Auferstehung bis du wieder kommst. Oder: Wenn wir dieses Brot essen und diese Tasse trinken, Wir verkünden deinen Tod, o Herr, bis du wieder kommst. Oder: Rette uns, Retter der Welt, Denn durch Ihr Kreuz und Ihre Auferstehung Sie haben uns freigelassen.

Amen.

Gemeinschaftsritus

Urdu (اردو)

قربانی ہو سکتا الا کو قبول ہو قادر مطلق باپ.

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے اس کے نام کی تعریف اور جلال کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اس کے تمام مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرسٹک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م اُن کو رب کی طرف اُٹھاتے

ہیں

آئیے م رب اپنے خدا کا شکر ادا کریں

یہ صحیح اور منصفانہ

پاک، مقدس، پاک رب الافواج آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور ہیں حسن اعلیٰ میں مبارک و جو خداوند کے نام پر آتا حسن اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے

ہیں ا رب! اور اپنی قیامت کا

دعویٰ کریں جب تک آپ

دوبارہ نہ آئیں یا: جب م یہ

روٹی کھاتے ہیں اور یہ پیالہ پیتے

ہیں، م تیری موت کا اعلان

کرتے ہیں، ا رب، جب تک آپ

دوبارہ نہ آئیں یا: ہمیں بچا،

دنیا کے نجات دہندے، آپ کی

صلیب اور قیامت کی طرف

سے آپ نہ میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

German (Deutsch)

Im Befehl des Erretters und gebildet durch göttliche Lehre, wir wagen wir zu sagen:

Vater unser, der du bist im Himmel,
Hallowed sei dein Name; euer Königreich
komme, Dein Wille geschehe auf Erden wie
es im Himmel ist. Gib uns heute unser
tägliches Brot, und vergib uns unsere
Übertretungen, wie wir denen vergeben, die
gegen uns treten; und führen uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem
Bösen.

Liefere Sie uns, Herr, wir beten, von jedem
Bösen, gnädig zu Frieden in unseren Tagen,
das, durch die Hilfe Ihrer Barmherzigkeit,
Wir können immer frei von Sünde sein und
sicher vor aller Not, Während wir auf die
gesegnete Hoffnung warten und das
Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus.

Für das Königreich, Die Kraft und der Ruhm
sind deine jetzt und für immer.

Herr Jesus Christus, Wer hat zu deinen
Aposteln gesagt: Frieden Ich verlasse dich,
mein Frieden, den ich dir gebe, Schauen Sie
nicht auf unsere Sünden, Aber über den
Glauben Ihrer Kirche, und gnädig ihren
Frieden und ihre Einheit gewähren in
Übereinstimmung mit deinem Willen. Die für
immer und ewig regieren und regieren.

Urdu (اردو)

نجات دند ک حکم پر اور
خدائی تعلیم ک ذریعہ تشکیل
دیا گیا ، مہ کی کئی
جسارت کرتے ہیں:

مار باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام ؛ تیری
بادشاہی آؤ ، آپ کی مرضی
پوری ہو جائے گی زمین پر
جیسا کہ آسمان میں آج
کہ دن میں ہماری روز کی
روٹی دے ، اور ہماری خطائیں
معاف فرما، جیسا کہ ہم ان
لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو
ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں
اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال،
لیکن ہمیں برائی سے بچا

ہمیں برائی سے نجات دے ،
اے رب، ہم دعا کرتے ہیں،
مہربانی سے ہمارے دنوں میں
امن عطا فرما، کہ تیری رحمت
سے ہم ہمیشہ گناہ سے آزاد ہو
سکتے ہیں اور تمام پریشانیوں
سے محفوظ جیسا کہ ہم
مبارک امید کا انتظار کر رہے
ہیں اور ہمارے نجات دند ،
یسوع مسیح کی آمد

بادشاہی کی لیے ، طاقت اور
جلال آپ کا اب اور ہمیشہ
کے لئے .

خداوند یسوع مسیح، جس نے
آپ کے رسولوں سے کہا: امن
میں آپ کو چھوڑتا ہوں، اپنا
امن میں آپ کو دیتا ہوں،
ہمارے گناہوں کو مت دیکھو
لیکن آپ کے چرچ کے ایمان پر،
اور فضل سے اس امن اور
اتحاد عطا فرمائے آپ کی
مرضی کے مطابق۔ جو ہمیشہ

German (Deutsch)

Amen.

Der Frieden des Herrn ist immer bei dir.

Und mit deinem Geist.

Lassen Sie uns uns gegenseitig das Zeichen des Friedens anbieten.

Lamm Gottes, du nimmst die Sünden der Welt weg, habe Gnade mit uns. Lamm Gottes, du nimmst die Sünden der Welt weg, habe Gnade mit uns. Lamm Gottes, du nimmst die Sünden der Welt weg, Gewähre uns Frieden.

Siehe das Lamm Gottes, Siehe, der die Sünden der Welt wegnimmt. Gesegnet sind diejenigen, die zum Abendessen des Lammes berufen sind.

Herr, ich bin nicht würdig dass Sie unter mein Dach eintreten sollten, Aber sagen Sie nur, dass das Wort und meine Seele geheilt werden.

Der Leib (Blut) Christi.

Amen.

Lass uns beten.

Amen.

Schließende Riten

Segen

Der Herr sei mit dir.

Und mit deinem Geist.

Möge der allmächtige Gott Sie segnen, Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Amen.

Urdu (اردو)

اور ابد تک زند اور حکومت کرتے ہیں

آمین

خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے

اور اپنی روح کے ساتھ

آئیے ایک دوسرے کو امن کا

نشان پیش کریں

خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں

کو دور کرتے ہو، ہم پر رحم

فرما۔ خدا کے برے، تم دنیا کے

گناہوں کو دور کرتے ہو، ہم پر

رحم فرما۔ خدا کے برے، تم دنیا

کے گناہوں کو دور کرتے ہو،

میں امن عطا فرما۔

خدا کے برے کو دیکھو، اس کو

دیکھو جو دنیا کے گناہوں کو لے

جاتا مبارک ہیں وہ لوگ

جو برے کے عشائیہ کے لیے بلائے

گئے ہیں

اے رب، میں اس لائق نہیں

ہوں کہ تم میری چہت کے

نیچے داخل ہو، لیکن صرف

لفظ کے ہو اور میری جان ٹھیک

و جائے گی

مسیح کا جسم (خون)

آمین

میں نماز پڑھ دو۔

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

قادر مطلق خدا آپ کو خوش

رکھے، باپ، اور بیٹا، اور روح

القدس

آمین

German (Deutsch)

Entlassung

Geh aus, die Messe ist beendet. Oder: Geh und verkündet das Evangelium des Herrn. Oder: Geh in Frieden und verherrlicht den Herrn durch dein Leben. Oder: Geh in Frieden.

Gott sei Dank.

Urdu (اردو)

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا
یا: جاؤ اور خداوند کی
انجیل کا اعلان کرو یا: سکون
سے جاؤ، اپنی زندگی سے
خداوند کی تمجید کرو یا:
سکون سے جاؤ
خدا کا شکر .

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC